

ابوطالب نے اسلام قبول کرنے سے اور کلمہ توحید کے اقرار سے انکار کر دیا چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب ابوطالب کی دنات کا وقت آ گیا تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ مغیرہ بھی موجود تھے آپ نے فرمایا: ”چچا! کلمہ“ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پڑھ لیجئے تاکہ میں اس اقرار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں، اس پر ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ بولے۔ ”ابوطالب، کیا توجہ المطلب کے دین سے منہ موڑ لے گا؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کہتے اور دہراتے رہے، تا آنکہ ابوطالب نے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہنے سے صاف انکار کر دیا اور آخری بات یہ کہی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے۔

اس سے آگے دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

”إِنَّكَ لَا تَمَدِّدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ“ (القصص: ۵۶)

”آپ جے چاہیں ہدایت عطا نہیں کر سکتے، ہاں اللہ جے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور ہدایت پانے والوں سے خوب واقف ہے!“

(صحیح مسلم، باب الدلیل علی صحتہ اسلام من حضرہ الموت - النسخہ)

اس حدیث کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں،

”تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی۔“  
هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ!

۳۔ اس قسم کی کوئی بحث میری نظر سے نہیں گزری۔

(۲)

بعض ورثاء کو ہمہ کرنا اور بعض کو محروم رکھنا؟

جناب بہادر جنگ صاحب ماڈل ٹاؤن لاہور سے لکھتے ہیں: